

September

IMPORTANT

- عربی میں ترجمہ
- ۱۔ مَخَافَةُ اللَّهِ
 - ۲۔ عَذَابُ اللَّهِ
 - ۳۔ رَأْسُ الْفَيْلِ
 - ۴۔ رَأْسُ الْفَيْلِ
 - ۵۔ رَأْسُ يَتَابِ
 - ۶۔ مَخَافَةُ اللَّهِ لِعَمَةٍ

14 3/R. Awal SATURDAY عَذَابُ اللَّهِ مُؤَدَّ

15 4/R. Awal SUNDAY إِنَّ اللَّهَ رَبُّ الْمَشْرِيقِينَ

۹۔ دَعَاءُ الْمُؤْمِنِ مَقْبُولٌ

۱۰۔ إِطَاعَةُ الرَّسُولِ وَإِطَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ

Handwritten signature

F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T
•	•	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30										

1411-12

1991

اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں۔ انہیں حرام نہ کرو اور جو سے تمہارا نہ کرو۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے قطعاً پتھر ہیں۔ (پارہ ۷۔ سورہ المائدہ آیت ۸۷)

September

IMPORTANT

اَبْوَابُ مَسْجِدِ اللَّهِ

مشالے :-

اللہ کی مسجدوں کے دروازے
 رب کیسے مسجد مبارکہ میں جنوف ہے
 میں وہ اللہ کا جنوف ہے اس لئے اس میں
 لوقوف پس آستیا اور ابواب کما ففان ائمة
 قوئے نیو ہے اس لئے اول قول ال

18 7/R. Awal WEDNESDAY

19 8/R. Awal THURSDAY 20 9/R. Awal FRIDAY

F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30										

1411-12

1991

September

IMPORTANT

۹ :- نُوْرًا لِّرِضْوَانِ وَالسَّمَوَاتِ

۱۰ :- رَطِيْبُ الزَّهْرِ وَرَطِيْبُ الْوَادِي طَيِّبَانِ

۱۱ :- اللهُ عَالِمُ الْغَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

۱۲ :- اللهُ مَا يَكُ يَوْمَ الدِّينِ

۱۳ :- إِطَاعَةُ الرَّسُولِ إِطَاعَةُ اللهِ

۱۴ :- مَوِيَّظَةُ عِبَادِ اللهِ صِدْقَةٌ

۱۵ :- عِلْمَاءُ سَاهَدِ اللهُ مَا لِيْحُونَ

23 12/R. Awal
MONDAY

24 13/R. Awal
TUESDAY

۱۶ :- قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْتُ اللهِ

۱۸ :- قُلْتَ الْوَلَدُ وَالْأَمَالُ فِئْتَهُ

۱۹ :- مَوِيَّظَةُ مُعَلِّمِ الْمَدْرَسَةِ مَوِيَّظَةُ كَسْنَةٍ

۲۰ :- هِنَاءُ الْكَسْبَانِ الْهِنَاءُ

۲۱ :- الْمَوِيَّظَةُ الْكَسْنَةُ كَثْرَةُ الْإِفْرِخَةِ

F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T
.	.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30										

1411-12

1991

September

IMPORTANT

کے درمیان کی کوئی لفظ نہیں آتا ہے۔ اس کو وہ
 سے آتے ہیں۔ پیدا ہوئے ہیں۔ اس کو اس میں صیغہ
 کی صفت ہے۔ آتے ہیں۔ مثلاً: **وَمَا يَكْفُرُ** اس
 آتے ہیں۔ صیغہ ہم اس طرح کہ **بَلَّغُوا** اس کے
 تو اس میں **وَمَا يَكْفُرُ** اس میں ہے کہ صیغہ
بَلَّغُوا اور صیغہ **بَلَّغُوا** اس کے درمیان صفت آتی ہے
 اس کے بعد صیغہ **بَلَّغُوا** اس کے بعد لائی جائے

NOTE-2 کی مثال کے میں دیکھیں

NOTE-3

درج بالا کی طرح ہی مثالوں کے مترجم
 کیا آتے ہیں۔ اس میں صیغہ ہم اس طرح کہ
 نظر آتا ہے کہ **بَلَّغُوا** اس میں ہے کہ صیغہ
 کا مترجم کر کے **بَلَّغُوا** اس میں ہے کہ آتے ہیں

28 17/R. Awal SATURDAY

29 18/R. Awal SUNDAY

A very important thing is to be noted
 that here: **GHULAMO** is to **ARRAJUL**
 which is a proper noun. Therefore
GHULAMO is accepted as a proper noun.
 Therefore its adjective **SALIHUN**
 is not used. But **ASSALIHUN** is used.

NOTE-4

دراصل اس میں ہے کہ صیغہ ہم اس میں ہے کہ
 آتے ہیں۔ صیغہ ہم اس طرح کہ **بَلَّغُوا** اس کے
 اور **بَلَّغُوا** اس کے بعد لائی جائے
 اس کے بعد صیغہ **بَلَّغُوا** اس کے بعد لائی جائے
 put in your mind that what is this

F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30										

1411-12

1991

October

IMPORTANT

main difference between the above both examples

دیکھئے کہ ہر مثال میں الفتح والی تہا ہے اور یہ غلام کی نسبت ہے اور ہر دو مثالوں میں الفتح کی صورت ہے۔

NOTE-4
 Third option is that کہ فصاف اور فصاف ایسے دونوں ہی نسبتاً ہی ہو مثال۔

ترجمہ: غلام الرقیل الفتح الفتح درجہ اولیٰ سے درجہ اولیٰ فصاف ایسے لغوی الرقیل کے بعد ایسے ہی لڑ رہے ہیں کہ یہ فصاف ایسے ہی نسبتاً ہی

30 19/R. Awal MONDAY

1 20/R. Awal TUESDAY

October

IMPORTANT

مشق نمبر ۱۵
 EXERCISE No - 15

اردو میں ترجمہ

- ۱۔ از استانی کامب لڑکا
- ۲۔ سب استانی کام لڑکا
- ۳۔ استانی کام لڑکا بیک ہے
- ۴۔ بڑے ہی استانی سب ہے
- ۵۔ بڑ بڑ کا قدم ناراض ہے
- ۶۔ بڑ کا ناراض غلام ہے
- ۷۔ ناراض بڑ کا غلام ہے
- ۸۔ محلے کا بچا بڑھی
- ۹۔ نازہ کمانے کی عمدہ فوسٹیو
- ۱۰۔ 21/R. Awal WEDNESDAY
 صبحوں بڑی کا دودھ کھلا ہے
- ۱۱۔ 22/R. Awal THURSDAY 3
 23/R. Awal FRIDAY 4
 گلاب کارنگ سرخ ہے

عربی میں ترجمہ

- ۱۔ تَلْمِیْذُ الْعَلِمِ السَّالِحِ
- ۲۔ تَلْمِیْذَةُ الْعَلِمِ الْمُحْتَمِدِ
- ۳۔ تَلْمِیْذُ الْعَلِمِ الْمُحْتَمِدِ صَالِحٍ
- ۴۔ تَلْمِیْذُ الْعَلِمَةِ الْمُحْتَمِدَةِ السَّالِحَةِ
- ۵۔ سَوْرَةُ الْعَذَابِ الشَّدِيدِ

F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31							

1411-12

1991

October

IMPORTANT

۴ :- تَاذِرُ اللّٰهَ الْمَوْقِدَةَ

۷ :- عَذَابُ جَهَنَّمَ اَلِيْمٌ

۸ :- قَلْبُ الْمُؤْمِنِ الْبَارِحِ الْمَطْمَئِنِّ

۹ :- قُلُوْبُ الْمُؤْمِنِيْنَ السَّالِحِيْنَ مُطْمَئِنَّةٌ

۱۰ :- فَبَارِزُ النَّجَارَةِ النَّظِيْفَةِ الْمُتَّحِدِ

۱۱ :- طَيْبُ الرَّحْرِ الرَّحْمَةِ النَّفِيْسِ

5 24/R. Awal SATURDAY

۱۲ :- لَيْسَ مِنَ الْبَقَرَةِ الْجَبِيْدِ

6 25/R. Awal SUNDAY

۱۳ :- لَيْسَ مِنَ الشَّاةِ الْبَسِيْرَةِ

۱۲ :-

۱۵ :-

۱۴ :-

October

IMPORTANT

کرب امتیازی حصہ ہجرت

CHAPTER - No - 16

NOTE-1 : شہر کے بھون لہن کے ان اور سے ہیں اور
جمع فکر سالم کے بھون لہن کے ٹون اور سے ہیں
کے آڑ میں جو ٹون اراانی ہوتے ہیں
آئے ہیں۔ انہوں

قاعدہ نمبر ۱ : ہجرت کو اسم نشیہ سے مفعول ما یوم
جمع فکر سالم کے مفعول دیکھ کر یا ان سے مفعول
پہن آئی ہے تو ایسا ٹون امرانی کرنا چاہیے
مثال : : عمان کے درتوں دروازے سے

اسما ترفیم یوم ہو طار
بارا البیت لظیفان
وسلے کو دستا لزم یہ ہونا چاہئے
نظیفان کے اس میں مذکورہ المول سے آیت

7 26/R. Awal
MONDAY

نظیفان کا ٹون امرانی کرنا چاہئے
مثال نمبر ۲ : : بے شک عمان کے درتوں دروازے سے
ہجرت صحیح

8 27/R. Awal
TUESDAY

ہجرت صحیح
مرجم ان سے یا فی البیت لظیفان
ہونا چاہئے
جمع ذکر سال
۶ مادیہ مسجدوں سے ہجرت صحیح ہے

مسجدوں کے ہجرت صحیح ہے
بے شک مسجدوں کے ہجرت صحیح ہے
ان سے مسجدوں کے ہجرت صحیح ہے

F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T
*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31							

1411-12

1991

انشاء اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا گھر ہے اور ہدیہ ہے حیاتی اور علم و زہدیت سے سچ کرنا ہے۔ وہ جس میں صحبت کرنا ہے۔ تاکہ سچ لو۔ (پارہ ۱۳ - سورۃ النحل آیت ۹۰)

October

IMPORTANT

مشتق نمبر ۱۶ EXERCISE - NO - 16

- ۱۔ فہ در نیک در بان میں
- ۲۔ فہ محل کے دو در بان میں
- ۳۔ کیا محل کے دو در بان نیک ہے
- ۴۔ لفظاً محل کے دو در بان نیک میں
- ۵۔ قر مصاف کے متواتر دو حصے پاؤں کا
- ۶۔ اسٹانی زیدی بھی ہے دونوں کے حصے میں
- ۷۔ اسٹانی کے عہدے کے دونوں پاؤں مصاف میں
- ۸۔ ہاڑوں کی خوبصورت جوڑیاں
- ۹۔ کیا اسکول کے اساتذہ تھکتی ہیں
- ۱۰۔ یقیناً اسکول کے اساتذہ تھکتی ہیں

9 28/R. Awal WEDNESDAY

10 29/R. Awal THURSDAY 11 30/R. Awal FRIDAY

عربی میں ترجمہ

- ۱۔ عَمَّا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْبُرُوقُ
- ۲۔ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْبُرُوقُ
- ۳۔ رِيحُ الْجَنَدِيِّ الطَّوِيلَةِ
- ۴۔ وَجُودُهُ بَاسِرَةٌ
- ۵۔ هَلْ وَجَّهًا الرَّجُلِينَ بَاسِرَاتٍ
- ۶۔ هَلْ بَانَ وَجْهِي الرَّجُلِينَ بَاسِرَاتٍ
- ۷۔ هَلْ كِتَابًا زُرْتُمْ صَعْبَانَ

F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T
.	.	.	.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31							

October

IMPORTANT

۸۔ اِنَّ يَتَايَىٰ ذُرِّيَّتِكُمْ

۹۔ لَكُم مِّنْهُنَّ مَا لَكُمْ

۱۰۔ لَكُمْ مِّنْهُنَّ مَا لَكُمْ

۱۱۔ لَكُمْ مِّنْهُنَّ مَا لَكُمْ

۱۲۔ لَكُمْ مِّنْهُنَّ مَا لَكُمْ

۱۳۔ لَكُمْ مِّنْهُنَّ مَا لَكُمْ

۱۴۔ لَكُمْ مِّنْهُنَّ مَا لَكُمْ

12 I.R. Suni SATURDAY

۱۳۔ لَكُمْ مِّنْهُنَّ مَا لَكُمْ

13 I.R. Suni SATURDAY

۱۴۔ لَكُمْ مِّنْهُنَّ مَا لَكُمْ

۱۵۔ لَكُمْ مِّنْهُنَّ مَا لَكُمْ

۱۶۔ لَكُمْ مِّنْهُنَّ مَا لَكُمْ

۱۷۔ لَكُمْ مِّنْهُنَّ مَا لَكُمْ

۱۸۔ لَكُمْ مِّنْهُنَّ مَا لَكُمْ

جدا

۲۱

F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31							

1411-12

1991

October

IMPORTANT

- ۲۱۔ حَامِدٌ وَ مَحْمُودٌ وَ لَدَانٍ مَسْبُوطَانِ وَ هَمَّا تَلْمِيزَانِ ذِي يَدَيْنِ الْعَالِمِ
- ۲۲۔ مَا طِئْمَةٌ وَ زَيْبٌ تَلْمِيزَانِ مَجْتَمِعَانِ وَ هُمَا بِنَاتَا الْمُعَلِّمِ الْعَالِمَةِ
- ۲۳۔ حَبَابٌ ذِي الْمَسْبُوطُونَ مَجْتَمِعُونَ حِدًّا
- ۲۴۔ فَيَأْطُوا الْخَارِجَةَ الْمَسْبُوطُونَ هَالِحُونَ حِدًّا
- ۲۵۔ فَيَأْزُ الْخَارِجَةَ التَّلْمِيزَةَ مَشْهُولَانِ

14 3/R. Sani MONDAY

15 4/R. Sani TUESDAY

و هُمَا مَادِقَانِ حِدًّا

مثنوی نمبر ۱۶
 آپ کو نیکیاں دینے سے پہلے ان سے کہیں کہ میں نے آپ کو کیا کر کے اللہ سے اور بارگاہِ حق سے
ج :- وہاں پہلے اللہ سے کہیں کہ میں نے آپ کو کیا کر کے اللہ سے اور بارگاہِ حق سے
 وہاں پہلے اللہ سے کہیں کہ میں نے آپ کو کیا کر کے اللہ سے اور بارگاہِ حق سے
 وہاں پہلے اللہ سے کہیں کہ میں نے آپ کو کیا کر کے اللہ سے اور بارگاہِ حق سے

Same one is written here again looking

October

IMPORTANT

حقیقہ نسیم
CHAPTER - NO - 17 :-

ضمایر مجرور کا

جمع	تثنیہ	واحد	مذکر	} غائب
ہم	تو	وہ	وہ	
ان (بہ مردوں) کا	ان (دو مردوں) کا	اس (بہ مردوں) کا	وہ	} غائب
ہیں	ہم	ہا	ہو	
ان (بہ عورتوں) کا	ان (دو عورتوں) کا	ان (بہ عورتوں) کا	ہو	

تیم	تو	تو	16 5/R. Sani WEDNESDAY
تیم (بہ مردوں) کا	تیم (دو مردوں) کا	تیم (بہ مردوں) کا	17 6/R. Sani THURSDAY
تیم	تو	تو	18 7/R. Sani FRIDAY
تیم (بہ عورتوں) کا	تیم (دو عورتوں) کا	تیم (بہ عورتوں) کا	

ہم	ہم	ہم	} متعلقہ
ہم	ہم	ہم	
ہم	ہم	ہم	
ہم	ہم	ہم	

F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31							

در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے یعنی اللہ سب کو جانتے والا اور پانچویں (پارہ ۳۶ سورہ الحجرات آیت ۱۳)

October

IMPORTANTS

ترجمہ

عزیز ما حفات اور اسفا باغ
تبیك (توزیر و تبیان)

۲۔ اچھی بی استانی اور اسفا سلول

معلمة الطفلة فرند سٹھا

اگر ان مثالوں کو دیکھیں تو یہ بات
اگر من الشمس ہے کہ تبیانہ استانی
پہلے سے تھا وہ یہ تبیانہ سے ہے
بقولہ قولا کہ بیان کہ بی تبیانہ
آئی ہے جو اس مقدم میں تصاف الیم ہے

19 8/R. Sani SATURDAY

اسی طرح تاکہ تک ہر اثر کو بیان

20 9/R. Sani SUNDAY

تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ
مذرت سٹھا (اسفا مقدم) اصل میں تھا تبیانہ کا مقدم
میانہ بیان ہائی مہر جی تبیانہ آئی ہے اور
تہ تبیانہ تصاف الیم ہے

NOTE-1 :- ہمارے ہندو مت میں
بہار کر تبیانہ الیم تبیانہ آئی ہیں اور تصاف
اسم ہندو مت میں حالت میں ہے جو کہ اس کے
ان قصائد کو حالت میں تبیانہ لیا گیا ہے
یہ وہ ہے کہ ان کا نام **ضیائے محروم** ہے

NOTE-2 :- یہ بات تبیانہ اور
باز رہ کر آئیں تصاف تبیانہ
کو تبیانہ (اسفا مقدم) تبیانہ (سرادب)
مثال :- کوئی (سرادب) تبیانہ (سرادب) تبیانہ (سرادب) تبیانہ (سرادب)

October

IMPORTANT

ضمائر متعلقہ ہیں

Further it is to be noted :- NOTE-3

that

آب (باب)، اَب (بعلی) فَم (منہ) تَو (وہ) اَب (وہ) یہ الفاظ لب حفاف ہیں کہ آتے ہیں تو حروف صدادیہ یا غائیہ یا سنیوں میں ان کی صورتیں درج ذیل ہیں

رَفَع	لَفَّ	مَر
أَبُو	أَبَا	أَبِي
أَهْوُو	أَخَا	أَخِي
فَوُو	فَا	فِي
زُوُو	زَا	زِي

21 10/R. Sani MONDAY

22 11/R. Sani TUESDAY

NOTE-4 :- مثال :-

اسکا باب عالم ہے

اَبُّ اَبَاهُ عَالِمٌ ہے شب اسکا باب عالم ہے کتاب اَبِيكَ جِدِّيَّةٌ : شہر سے مہمانی کی کتاب جِدِّيَّةٌ

NOTE-5 :- ماورائیس یہ الفاظ اگر واحد متعلم کی

حالت میں آتے ہیں تو سنیوں اور ابی حالت میں آتے ہیں تو سنیوں اور ابی حالت میں آتے ہیں تو سنیوں اور ابی

مثلاً :- اَبِي، مِيرَا بَاب، اَبِي مِيرَا مِهَانِي

فِي مِيرَا مِهَانِي

F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31							

1411-12

1991

October

IMPORTANT

راتل :- دوسری صورت یہ ہے کہ منادی عرف
یا اقولم ہو تو ان پر جب عرف نماز داخل ہوا تو
تو خبر کے ساتھ یا اقولم اور عورت کے ساتھ یا اقولم
یہاں سے کہا جائے

مثال :- یا اقولم اور الطفلة پر جب عرف نماز
داخل ہو تو یہ کہیں ادا ہوئی ہیں

یا اقولم الرجل (اے نبی) یا اقولم الطفلة

راتل :- سنی صورت یہ ہے کہ منادی عرف نماز
میں عرف نماز داخل ہوتا ہے تو عورت
کو یہ دیکھ کر

خلاصہ :- عید اللہ عید الرحمن

26 15/R. Sani SATURDAY

27 16/R. Sani SUNDAY

NOTE-8 :- بعض اوقات عرف نماز کے بعد عید الرحمن
آتا ہے یہ بھی اسے منادی سے مانا جاتا ہے یہ
اسلوب الذر نہیں بلکہ موجود ہے اس میں لفظ
عید الرحمن نہ من کو دیا گئی ہے کہ جو کہنے میں
جو کہنے والے سے سمجھا جائے کہ اسے عید الرحمن
کی طرح لگتی ہے یا کہ عید الرحمن سے
NOTE :- یہ سب کچھ عرف نماز سے منادی سے سمجھا جاتا ہے
اسی لئے کہنا جائز ہے اے ہمارے رب

F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31							

1411-12

1991

October

مشق کا IMPORTANTS EXERCISE - NO - 17

- ۱۔ اے مرد تمہارا نام کیا ہے
- ۲۔ میرے آقا میرا نام کیا ہے
- ۳۔ اے عبد اللہ کیا آپ درزی یا بڑھئی ہیں
- ۴۔ میں درزی یا بڑھئی نہیں ہوں جنابا ابلہ میں دوران میں
- ۵۔ اے پروردگار میری کتاب سے اسباق کیا ہیں
- ۶۔ پروردگار اللہ نے فرمایا جو کتاب سردار کا نام ہے وہ
- ۷۔ بلکہ تم میں سے فضول خرچ قوم ہے
- ۸۔ اے اللہ صراط پروردگار ہے
- ۹۔ وہ سب جھوٹے اور کفار ہیں
- ۱۰۔ قرآن کریم تمہاری کتاب اور ہماری کتاب ہے
- ۱۱۔ اللہ تعالیٰ سب کا جاننے والا ہے اور اسی کے پاس
- قیامت کا علم ہے
- ۱۲۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت ہے ہدایت ہے
- ۱۳۔ اسی میں ہدایت ہے
- ۱۴۔ ہمارے پاس محفوظ کتاب ہے
- ۱۵۔ کتاب میں ہے اور یہ ہے
- ۱۶۔ میری کتاب تمہارے پاس ہے اور یہ ہے
- ۱۷۔ تمہارا پروردگار اسی ہے اور اس کا نام ہے
- ۱۸۔ ہے شک اللہ تعالیٰ میرا رب اور تمہارا رب ہے

28 17/R. Sani MONDAY

29 18/R. Sani TUESDAY